

ARABIC VERB CONJUGATOR

أَصَابَ
يُصِيبُ

Befall

VERBAL NOUN (MASDAR)

إِصَابَةٌ

اصابت / پہنچنا

Root: ص و ب

PAST	أَصَابَ اس نے مصیبت پہنچائی	PRESENT	يُصِيبُ وہ مصیبت پہنچاتا ہے	MASDAR	إِصَابَةٌ اصابت / پہنچنا	ISM FA'IL	مُصِيبٌ پہنچانے والا / درست	ISM MAFOOL	مُصَابٌ مصیبت زدہ
------	--------------------------------	---------	--------------------------------	--------	-----------------------------	-----------	--------------------------------	------------	----------------------

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	أَصَابَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے مصیبت پہنچائی
هُمْ	أَصَابُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے مصیبت پہنچائی
هِيَ	أَصَابَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے مصیبت پہنچائی
هِنَّ	أَصَابْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے مصیبت پہنچائی
أَنْتَ	أَصَبْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے مصیبت پہنچائی
أَنْتُمَا	أَصَبْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے مصیبت پہنچائی
أَنْتُمْ	أَصَبْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے مصیبت پہنچائی
أَنْتِ	أَصَبْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے مصیبت پہنچائی
أَنْتُمَا	أَصَبْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے مصیبت پہنچائی
أَنْتِمْ	أَصَبْتِمْ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے مصیبت پہنچائی
أَنَا	أَصَبْتُ	میں	میں نے مصیبت پہنچائی
نَحْنُ	أَصَبْنَا	ہم	ہم نے مصیبت پہنچائی

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يُصِيبُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد مصیبت پہنچاتا ہے
هُمَا	يُصِيبَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد مصیبت پہنچاتے ہیں
هُمْ	يُصِيبُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد مصیبت پہنچاتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت مصیبت پہنچاتی ہے	وہ (ایک عورت)	تُصِيبُ	هِيَ
وہ دو عورتیں مصیبت پہنچاتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تُصِيبَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں مصیبت پہنچاتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يُصِيبْنَ	هُنَّ
تم ایک مرد مصیبت پہنچاتے ہو	تم (ایک مرد)	تُصِيبُ	أَنْتَ
تم دونوں مصیبت پہنچاتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تُصِيبَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد مصیبت پہنچاتے ہو	تم (سب مرد)	تُصِيبُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت مصیبت پہنچاتی ہو	تم (ایک عورت)	تُصِيبِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں مصیبت پہنچاتی ہو	تم (دو عورتیں)	تُصِيبَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں مصیبت پہنچاتی ہو	تم (سب عورتیں)	يُصِيبْنَ	أَنْتُنَّ
میں مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں	میں	أُصِيبُ	أَنَا
ہم مصیبت پہنچاتے ہیں	ہم	نُصِيبُ	نَحْنُ

IMPERATIVE

الأمر والنهي

POSITIVE	الأمر	NEGATIVE	النهي
الضمیر	الفعل	الضمیر	الفعل
تم مصیبت پہنچاؤ (مذکر واحد)	أُصِبْ	تَمِصِيبَتِمْ مِتْ پَهِنچَاؤ (مذکر واحد)	لَا تُصِيبْ
تم دونوں مصیبت پہنچاؤ	أُصِيبَا	تَمِصِيبَتِمْ مِتْ پَهِنچَاؤ	لَا تُصِيبَا
تم سب مصیبت پہنچاؤ (مذکر جمع)	أُصِيبُوا	تَمِصِيبَتِمْ مِتْ پَهِنچَاؤ (مذکر جمع)	لَا تُصِيبُوا
تم مصیبت پہنچاؤ (مؤنث واحد)	أُصِيبِي	تَمِصِيبَتِمْ مِتْ پَهِنچَاؤ (مؤنث واحد)	لَا تُصِيبِي
تم دونوں مصیبت پہنچاؤ (مؤنث)	أُصِيبَا	تَمِصِيبَتِمْ مِتْ پَهِنچَاؤ (مؤنث)	لَا تُصِيبَا
تم سب مصیبت پہنچاؤ (مؤنث جمع)	أُصِيبْنَ	تَمِصِيبَتِمْ مِتْ پَهِنچَاؤ (مؤنث جمع)	لَا يُصِيبْنَ

الجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وه (ایک مرد)
نِي	أَصَابَنِي اس نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	أَصَابَنَا اس نے ہمیں مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَكَ اس نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
كُمَا	أَصَابَكُمَا اس نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
كُم	أَصَابَكُم اس نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَكَ اس نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
كُنَّ	أَصَابَكُنَّ اس نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُ	أَصَابَهُ اس نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَهُمَا اس نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
هُمْ	أَصَابَهُمْ اس نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
هَا	أَصَابَهَا اس نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَهُمَا اس نے ان دونوں عورتوں کو مصیبت پہنچائی
هِنَّ	أَصَابَهُنَّ اس نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُمَا (مذكر)	وه (دو مرد)
نِي	أَصَابَانِي ان دو مردوں نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	أَصَابَانَا ان دو مردوں نے ہمیں مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَاكَ ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
كُمَا	أَصَابَاكُمَا ان دو مردوں نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
كُم	أَصَابَاكُم ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَاكَ ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
كُنَّ	أَصَابَاكُنَّ ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُ	أَصَابَاهُ ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَاهُمَا ان دو مردوں نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
هُمْ	أَصَابَاهُمْ ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
هَا	أَصَابَاهَا ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
هِنَّ	أَصَابَاهُنَّ ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

هم	وہ (سب مرد)
نِي	ان سب مردوں نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں مصیبت پہنچائی
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
كُمَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
كُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
كُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
هُمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
هُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
هَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
هِنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

هي	وہ (ایک عورت)
نِي	اس ایک عورت نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں مصیبت پہنچائی
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
كُمَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
كُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
كُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
هُمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
هُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
هَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
هِنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	أَصَابَتَانِي	ان دو عورتوں نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	أَصَابَتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَتَاكَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
كَا	أَصَابَتَاكُمَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
كُم	أَصَابَتَاكُم	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَتَاكِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
كُنَّ	أَصَابَتَاكُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُ	أَصَابَتَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَتَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
هُم	أَصَابَتَاهُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
هَا	أَصَابَتَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
هِنَّ	أَصَابَتَاهِنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

هن		وہ (سب عورتیں)
نِی	أَصَابَنِي	ان سب عورتوں نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	أَصَابَنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَنِكَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
كَا	أَصَابَنَاكُمْ	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
كُم	أَصَابَنَاكُمْ	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
كَ	أَصَابَنِيكِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
كُنَّ	أَصَابَنَكُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
هُ	أَصَابَنَهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
هُمَا	أَصَابَنَهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
هُم	أَصَابَنَهُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
هَا	أَصَابَنَهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
هِنَّ	أَصَابَنَهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

أَنْتَ	تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ)
نِی	أَصْبَتَنِیْ تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے مَجْھِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
نَا	أَصْبَتْنَا تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے ہَمِیْنِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُ	أَصْبَتَهُ تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے اَسَے (اِیْکَ مَرَدٍ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَمَا	أَصْبَتَهُمَا تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے اِن دُونُوں کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُمْ	أَصْبَتَهُمْ تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے اِن سَبِّ (مَرَدُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَا	أَصْبَتَهَا تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے اَسَے (اِیْکَ عَوْرَتِ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُنَّ	أَصْبَتَهُنَّ تَمَّ (اِیْکَ مَرَدٍ) نَے اِن سَبِّ (عَوْرَتُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی

أَنْتِ	تَمَّ دُونُوں (مَرَدٍ/عَوْرَتِ)
نِی	أَصْبَتَمَانِیْ تَمَّ دُونُوں نَے مَجْھِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
نَا	أَصْبَتَمَانَا تَمَّ دُونُوں نَے ہَمِیْنِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُ	أَصْبَتَمَاهُ تَمَّ دُونُوں نَے اَسَے (اِیْکَ مَرَدٍ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَمَا	أَصْبَتَمَاهُمَا تَمَّ دُونُوں نَے اِن دُونُوں کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُمْ	أَصْبَتَمَاهُمْ تَمَّ دُونُوں نَے اِن سَبِّ (مَرَدُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَا	أَصْبَتَمَاهَا تَمَّ دُونُوں نَے اَسَے (اِیْکَ عَوْرَتِ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُنَّ	أَصْبَتَمَاهُنَّ تَمَّ دُونُوں نَے اِن سَبِّ (عَوْرَتُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی

أَنْتُمْ	تَمَّ سَبِّ (مَرَدٍ)
نِی	أَصْبَتَمُونِیْ تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے مَجْھِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
نَا	أَصْبَتَمُونَا تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے ہَمِیْنِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُ	أَصْبَتَمُوهُ تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے اَسَے (اِیْکَ مَرَدٍ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَمَا	أَصْبَتَمُوهُمَا تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے اِن دُونُوں کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُمْ	أَصْبَتَمُوهُمْ تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے اِن سَبِّ (مَرَدُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَا	أَصْبَتَمُوهَا تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے اَسَے (اِیْکَ عَوْرَتِ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُنَّ	أَصْبَتَمُوهُنَّ تَمَّ سَبِّ (مَرَدُوں) نَے اِن سَبِّ (عَوْرَتُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی

أَنْتِ	تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ)
نِی	أَصْبَتَنِیْ تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے مَجْھِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
نَا	أَصْبَتْنَا تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے ہَمِیْنِ مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُ	أَصْبَتَهُ تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے اَسَے (اِیْکَ مَرَدٍ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَمَا	أَصْبَتَهُمَا تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے اِن دُونُوں کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُمْ	أَصْبَتَهُمْ تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے اِن سَبِّ (مَرَدُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہَا	أَصْبَتَهَا تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے اَسَے (اِیْکَ عَوْرَتِ) مَصِیْبَتِ پَہنچائی
ہُنَّ	أَصْبَتَهُنَّ تَمَّ (اِیْکَ عَوْرَتِ) نَے اِن سَبِّ (عَوْرَتُوں) کُو مَصِیْبَتِ پَہنچائی

انتن	تم سب (عورتیں)
نِی	تم سب (عورتوں) نے مجھے مصیبت پہنچائی
نَا	تم سب (عورتوں) نے ہمیں مصیبت پہنچائی
ہ	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
ہمَا	تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
ہم	تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
ہَا	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
ہن	تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

اِنَا	میں
ک	میں نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
کَا	میں نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
کُم	میں نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
کِ	میں نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
کُن	میں نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
ہ	میں نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
ہمَا	میں نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
ہم	میں نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
ہَا	میں نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
ہن	میں نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

نَحْنُ	ہم
ک	ہم نے تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
کَا	ہم نے تم دونوں کو مصیبت پہنچائی
کُم	ہم نے تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
کِ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
کُن	ہم نے تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی
ہ	ہم نے اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچائی
ہمَا	ہم نے ان دونوں کو مصیبت پہنچائی
ہم	ہم نے ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچائی
ہَا	ہم نے اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچائی
ہن	ہم نے ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچائی

الجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَصِيبُنِي	وہ مجھے مصیبت پہنچاتا ہے
نَا	يَصِيبُنَا	وہ ہمیں مصیبت پہنچاتا ہے
كَ	يَصِيبُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتا ہے
كُمَا	يَصِيبُكُمَا	وہ تم دونوں کو مصیبت پہنچاتا ہے
كُم	يَصِيبُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتا ہے
كَ	يَصِيبُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتا ہے
كُنَّ	يَصِيبُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتا ہے
ه	يَصِيبُهُ	وہ اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتا ہے
هُمَا	يَصِيبُهُمَا	وہ ان دونوں کو مصیبت پہنچاتا ہے
هُمْ	يَصِيبُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتا ہے
هَا	يَصِيبُهَا	وہ اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتا ہے
هُمَا	يَصِيبُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو مصیبت پہنچاتا ہے
هِنَّ	يَصِيبُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتا ہے

هُمَا (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	يَصِيبَانِي	وہ دو مرد مجھے مصیبت پہنچاتے ہیں
نَا	يَصِيبَانَا	وہ دو مرد ہمیں مصیبت پہنچاتے ہیں
كَ	يَصِيبُكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہیں
كُمَا	يَصِيبُكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہیں
كُم	يَصِيبُكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
كَ	يَصِيبُكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہیں
كُنَّ	يَصِيبُكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
ه	يَصِيبَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہیں
هُمَا	يَصِيبَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہیں
هُمْ	يَصِيبَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
هَا	يَصِيبَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہیں
هِنَّ	يَصِيبَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں

هم		وہ (سب مرد)
نِیْ	یَصِیْبُوْنِیْ	وہ سب مرد مجھے مصیبت پہنچاتے ہیں
نَا	یَصِیْبُوْنَا	وہ سب مرد ہمیں مصیبت پہنچاتے ہیں
کَ	یَصِیْبُوْکَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہیں
کَکَ	یَصِیْبُوْکَا	وہ سب مرد تم دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہیں
کُمُ	یَصِیْبُوْکُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
کَکَ	یَصِیْبُوْکَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہیں
کُنَّ	یَصِیْبُوْکُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
ہ	یَصِیْبُوْہُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہیں
ہمَا	یَصِیْبُوْہُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہیں
ہم	یَصِیْبُوْہُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
ہَا	یَصِیْبُوْہَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہیں
ہنَّ	یَصِیْبُوْہُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں

ہی		وہ (ایک عورت)
نِیْ	تَصِیْبُنِیْ	وہ ایک عورت مجھے مصیبت پہنچاتی ہے
نَا	تَصِیْبِنَا	وہ ایک عورت ہمیں مصیبت پہنچاتی ہے
کَ	تَصِیْبِکَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہے
کَکَ	تَصِیْبِکَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہے
کُمُ	تَصِیْبِکُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہے
کَکَ	تَصِیْبِکَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہے
کُنَّ	تَصِیْبِکُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہے
ہ	تَصِیْبِہُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہے
ہمَا	تَصِیْبِہُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہے
ہم	تَصِیْبِہُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہے
ہَا	تَصِیْبِہَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہے
ہنَّ	تَصِیْبِہُنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہے

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تُصِیْبَانِی	وہ دو عورتیں مجھے مصیبت پہنچاتی ہیں
نَا	تُصِیْبَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں مصیبت پہنچاتی ہیں
کَ	تُصِیْبَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہیں
کَا	تُصِیْبَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہیں
کُم	تُصِیْبَاکُم	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں
کِ	تُصِیْبَاکِ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہیں
کُنَّ	تُصِیْبَاکُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں
ہُ	تُصِیْبَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہیں
ہَمَا	تُصِیْبَاهُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہیں
ہُم	تُصِیْبَاهُم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں
ہَا	تُصِیْبَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہیں
ہِنَّ	تُصِیْبَاهِنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یُصِیْبِنِی	وہ سب عورتیں مجھے مصیبت پہنچاتی ہیں
نَا	یُصِیْبِنَا	وہ سب عورتیں ہمیں مصیبت پہنچاتی ہیں
کَ	یُصِیْبِنَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہیں
کَا	یُصِیْبِنَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہیں
کُم	یُصِیْبِنَاکُم	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں
کِ	یُصِیْبِنَاکِ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہیں
کُنَّ	یُصِیْبِنَاکُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں
ہُ	یُصِیْبِنَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہیں
ہَمَا	یُصِیْبِنَاهُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہیں
ہُم	یُصِیْبِنَاهُم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں
ہَا	یُصِیْبِنَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہیں
ہِنَّ	یُصِیْبِنَاهِنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہیں

أَنْتَ	تَمَّ (ایک مرد)
نِي	تَمَّ (ایک مرد) مجھے مصیبت پہنچاتے ہو
نَا	تَمَّ (ایک مرد) ہمیں مصیبت پہنچاتے ہو
هُ	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہو
هُمَا	تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہو
هُمْ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہو
هَا	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہو
هِنَّ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہو

أَنْتَا	تَمَّ (مرد/عورت)
نِي	تَمَّ دونوں مجھے مصیبت پہنچاتے ہو
نَا	تَمَّ دونوں ہمیں مصیبت پہنچاتے ہو
هُ	تَمَّ دونوں اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہو
هُمَا	تَمَّ دونوں ان دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہو
هُمْ	تَمَّ دونوں ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہو
هَا	تَمَّ دونوں اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہو
هِنَّ	تَمَّ دونوں ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہو

أَنْتُمْ	تَمَّ سب (مرد)
نِي	تَمَّ سب (مرد) مجھے مصیبت پہنچاتے ہو
نَا	تَمَّ سب (مرد) ہمیں مصیبت پہنچاتے ہو
هُ	تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہو
هُمَا	تَمَّ سب (مرد) ان دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہو
هُمْ	تَمَّ سب (مرد) ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہو
هَا	تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہو
هِنَّ	تَمَّ سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہو

أَنْتِ	تَمَّ (ایک عورت)
نِي	تَمَّ (ایک عورت) مجھے مصیبت پہنچاتی ہو
نَا	تَمَّ (ایک عورت) ہمیں مصیبت پہنچاتی ہو
هُ	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہو
هُمَا	تَمَّ (ایک عورت) ان دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہو
هُمْ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہو
هَا	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہو
هِنَّ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہو

أنتن	تم سب (عورتیں)
نِي	يُصِيبُنِي تم سب (عورتیں) مجھے مصیبت پہنچاتی ہو
نَا	يُصِيبُنَا تم سب (عورتیں) ہمیں مصیبت پہنچاتی ہو
هُ	يُصِيبُهُ تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتی ہو
هُمَا	يُصِيبُهُمَا تم سب (عورتیں) ان دونوں کو مصیبت پہنچاتی ہو
هُمْ	يُصِيبُهُمْ تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتی ہو
هَا	يُصِيبُهَا تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتی ہو
هِنَّ	يُصِيبُنَهُنَّ تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتی ہو

أنا	میں
كَ	أُصِيبُكَ میں تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كَمَا	أُصِيبُكُمْ میں تم دونوں کو مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كُمُ	أُصِيبُكُمْ میں تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كَ	أُصِيبُكَ میں تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
كُنَّ	أُصِيبُكُنَّ میں تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُ	أُصِيبُهُ میں اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُمَا	أُصِيبُهُمَا میں ان دونوں کو مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هُمْ	أُصِيبُهُمْ میں ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هَا	أُصِيبُهَا میں اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں
هِنَّ	أُصِيبُنَهُنَّ میں ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتا/پہنچاتی ہوں

نحن	ہم
كَ	نُصِيبُكَ ہم تمہیں (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہیں
كَمَا	نُصِيبُكُمْ ہم تم دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہیں
كُمُ	نُصِيبُكُمْ ہم تم سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
كَ	نُصِيبُكَ ہم تمہیں (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہیں
كُنَّ	نُصِيبُكُنَّ ہم تم سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
هُ	نُصِيبُهُ ہم اسے (ایک مرد) مصیبت پہنچاتے ہیں
هُمَا	نُصِيبُهُمَا ہم ان دونوں کو مصیبت پہنچاتے ہیں
هُمْ	نُصِيبُهُمْ ہم ان سب (مردوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں
هَا	نُصِيبُهَا ہم اسے (ایک عورت) مصیبت پہنچاتے ہیں
هِنَّ	نُصِيبُنَهُنَّ ہم ان سب (عورتوں) کو مصیبت پہنچاتے ہیں

I

أَنَا مَا أَصَبْتُ أَحَدًا بِظُلْمٍ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ.
میں نے کسی کو ظلم سے تکلیف نہیں پہنچائی اور میں اللہ سے عاقبت مانگتا ہوں۔

I did not befall anyone with injustice, and I ask Allah for wellbeing.

We

نَحْنُ مَا أَصَبْنَا إِخْوَانَنَا بِسُوءٍ بَلْ سَاعَدْنَاهُمْ.
ہم نے اپنے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ ان کی مدد کی۔

We did not befall our brothers with harm; rather, we helped them.

You (m)

أَنْتَ أَصَبْتَ الْهَدَفَ بِفَضْلِ اللَّهِ ثُمَّ بِاجْتِهَادِكَ.
تم نے اللہ کے فضل اور پھر اپنی محنت سے ہدف حاصل کیا۔

You hit the target by Allah's grace and then by your hard work.

You (f)

أَنْتِ أَصَبْتِ فِي رَأْيِكَ عِنْدَ مَا نَصَحْتِ أُخْتَكِ بِالصَّبْرِ.
تم نے صحیح رائے دی جب اپنی بہن کو صبر کی نصیحت کی۔

You were right in your opinion when you advised your sister to be patient.

He

هُوَ أَصَابَهُ مَرَضٌ شَدِيدٌ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ عِنْدَ اللَّهِ.
اسے شدید بیماری نے آیا تو اس نے صبر کیا اور اللہ سے اجر کی امید رکھی۔

A severe illness befell him, so he was patient and sought reward from Allah.

She

هِيَ أَصَابَتْهَا مُصِيبَةٌ فَلَجَأَتْ إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ.
اسے مصیبت آئی تو اس نے دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ لی۔

A calamity befell her, so she turned to Allah through supplication.

They two

هُمَا أَصَابَا فِي تَقْدِيرِهِمَا لِلْمَوْقِفِ بِحِكْمَةٍ وَرَوِيَّةٍ.
ان دونوں نے حکمت اور سوچ بچار سے صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا۔

They both were accurate in their assessment of the situation with wisdom and deliberation.

They (m)

هُمْ أَصَابُوا الْحَقَّ لَمَّا اتَّبَعُوا الدَّلِيلَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
انہوں نے حق کو پایا جب کتاب و سنت کی دلیل کی پیروی کی۔

They found the truth when they followed the evidence from the Quran and Sunnah.

You all (m)

أَنْتُمْ أَصَبْتُمْ الْخَيْرَ حِينَ تَعَاوَنْتُمْ عَلَى نَصْرِ الْمَظْلُومِ.
تم سب نے خیر پائی جب مظلوم کی مدد میں تعاون کیا۔

You all attained goodness when you cooperated in supporting the oppressed.

They (f)

هُنَّ أَصَبْنَ فِي اخْتِيَارِهِنَّ لِلتَّخْصِصِ الَّذِي يَنْفَعُ الْأُمَّةَ.
انہوں نے ایسی تخصص کے انتخاب میں صحیح فیصلہ کیا جو امت کو فائدہ پہنچائے۔

They were right in choosing a specialization that benefits the Ummah.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَصِيبُ الْهَدَفَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِذَا أَخْلَصْتُ النِّيَّةَ.
میں اللہ کے اذن سے ہدف حاصل کرتا ہوں جب نیت خالص ہو۔

I hit the target by Allah's permission when I purify my intention.

We

نَحْنُ نَصِيبُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا اتَّبَعْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ.
ہم ان شاء اللہ حق پاتے ہیں جب کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔

We attain the truth, God willing, when we follow the Quran and the Sunnah.

You (m)

أَنْتَ تُصِيبُ فِي قَرَارَاتِكَ لِأَنَّكَ تَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ.
تم اپنے فیصلوں میں صحیح ہوتے ہو کیونکہ اہل علم سے مشورہ کرتے ہو۔

You are correct in your decisions because you consult the people of knowledge.

You (f)

أَنْتِ تُصِيبِينَ فِي تَرْبِيَّتِكَ لِأَنَّكَ تَتَّبِعِينَ الْمَنْهَجَ الصَّحِيحَ.
تم اپنی تربیت میں صحیح ہو کیونکہ صحیح منہج کی پیروی کرتی ہو۔

You are right in your upbringing because you follow the correct methodology.

He

هُوَ يُصِيبُ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَعَامِلُهُم بِالرِّفْقِ.
وہ لوگوں سے نیکی سے پیش آتا ہے اور نرمی سے معاملہ کرتا ہے۔

He treats people with kindness and deals with them gently.

She

هِيَ تُصِيبُ فِي نَصَحِهَا لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ عَلَى عِلْمٍ شَرْعِيٍّ.
وہ اپنی نصیحت میں صحیح ہوتی ہے کیونکہ شرعی علم پر اعتماد کرتی ہے۔

She is right in her advice because she relies on religious knowledge.

They two

هُمَا يُصِيبَانِ الصَّوَابَ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِمَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ.
وہ دونوں اللہ کی توفیق سے اکثر فیصلوں میں صحیح ہوتے ہیں۔

They both reach the correct judgment in most of their rulings by Allah's guidance.

They (m)

هُمْ يُصِيبُونَ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّفْعِ حِينَ يَعْلَمُونَهِمُ الدِّينَ.
وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جب انہیں دین سکھاتے ہیں۔

They benefit Muslims when they teach them the religion.

You all (m)

أَنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي دَعْوَتِكُمْ لِأَنَّكُمْ تَتَّبِعُونَ الْحَقَّ بِدَلِيلٍ.
تم سب اپنی دعوت میں صحیح ہو کیونکہ دلیل کے ساتھ حق کی پیروی کرتے ہو۔

You all are right in your calling because you follow the truth with evidence.

They (f)

هُنَّ يُصِيبْنَ فِي تَعْلِيمِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ يَعْتَنِينَ بِالْمَنْهَجِ الْعِلْمِيِّ.
وہ اپنی تعلیم میں صحیح ہیں کیونکہ علمی منہج کا خیال رکھتی ہیں۔

They are correct in their teaching because they take care of the scholarly methodology.

VOCABULARY

المفردات

الإصابة

اصابت / پہنچنا

affliction / hitting the target

المصيبة

مصیبت

calamity / affliction

المصيب

صحیح کہنے والا

the one who is correct

الصواب

درست / صحیح

correctness / right

العافية

عافیت / صحت

wellbeing / health

الاحتساب

اجر کی امید

seeking reward (from Allah)

الروية

سوچ بچار

deliberation / reflection

الاستشارة

مشورہ

consultation

النصرة

مدد / نصرت

support / aid

المظلوم

مظلوم

the oppressed

التخصص

تخصص / مہارت

specialization

الرفق

نرمی

gentleness

الدليل

دلیل / ثبوت

evidence / proof

الدعوة

دعوت

calling / invitation

النية

نیت

intention